



انسِيَة بنتُ

نَسِيْتِ وَرَدًا

تُبْكِي وَتُبْكِي نَسِيْتِ وَرَدًا

اعطوها وَرَدًا اعطوها وَرَدًا

اليَوْمِ مِيْلَادُ امِّهَا ، خُذِي ذَا الْوَرْدِ اعْطِيهَا

انسِيَة بنتُ وَجَدَتْ وَرَدًا

فَرِحَتْ فَرِحَتْ وَجَدَتْ وَرَدًا

مواہی طاہرین ص ع سی بیان ہے کہ مؤمن نادل نے خوش کروا ما گھنوثواب ہے  
انے ہدیة اپواسی محبة زیادہ تھائی ہے .

وردا :- پھول ، تبکی :- مروٹی ہے ، نسیت :- بھولی گئی ، فاعطوها :- پچھی اپواہنے ،

امہا :- اہنامانہ ، خذی :- لو تمیں ، فرحت :- خوش تھی گئی